

بسم الله الرحمن الرحيم

کتاب و سنت کا راقدا
نکھنی بین فی پہلی یہ حمد خدا
حمد ہی سب موجود افلاک کو
اوج بخش صاحب لولاک کو
پاک ہی وہ خالق جن ملک
نور سی او کی منور ہی فلک
پاک ہی وہ بادشاہ فی زوال
او فی احمد کو کیا والا کمال
پاک ہی وہ قادر الجلیل
ہی محمد او کی قدرت کی دلیل
پاک ہی وہ صاحب لوح و قلم
مصطفیٰ کو او فی کہا محترم
جس کے تہی مسجد بیت الحرم
وہان سی او کو باہر ان ختم
لی کیا شکر او تھا کردستان
مسجد اقصا سی ہر بی شکر
مسجد بیت المقدس تہی جہا
لی گیا یل مارتی سوی فلک

وہی اب وصف تحفیف ای ہے
ایک روز غین وایت یون ہے
درمہنیوں کی ہی روز نکا ثواب
اپنی ان بند و کوبدل ایک کے
رور روزی چہ کہی کوئی کمر
ساتھ روز نکا وہن پاوی
اسی ایت کے موافق یہ غریز

تجکوختا یعنی با لطف و شفقت
صوم یکا سہ یلن ای رومن روا
کہ ہو کہ ب العا یلن ای فیض
نیکیان دیتا ہی در ایک لطف
بعد یوم الفطری صلا
لکھتی یلن یون کو بعض ایل
روزہ دار دایمی بلہی مہیر

رفیق سید انس جان برای سیر باغ بنائ

ہر لی القصہ پر حرم یہ بات
یون کہا خلاق اکبرنی وسیع
جو مہیا یعنی کر کہامی ہیں
حضرت خیر اور ابولی کہان
امرا سرفیل کو پیر یہ ہوا
کہہ دی یہ روح الامین بیکار
اور تو باغ جنا عین کر کذر

فرض یعنی ہو چکا صوم و صلا
تیری اور امت کی تیری واسطے
تو کہی تو اب کروں تجہ پر عیان
وہ دکہا ای کل شفعہ از نہان
او کثری کی قدسی صفا
مصطفیٰ کو ساتھ لی ای تبار
سب محمد کو دکہا وہ سربر

قصه به موزدن کیا با این صفا
په طبیعت فی کهای نیک خو
آورده دن تهار و رعیه المؤمنین
آخر ایام شریق ای جوان
سال بحیری تهی بصده غر و ثمر
دوست مشفق مهربان صاحب زمان
میرمید ان سخن انداز جو
نیک سیرت نیک طینت نیک دین
صورت و اراک معنی ذکا
مونس و غمخوار ایام فراق
یار بخر فکر دین هو غو طزن
یک سیک با صد هزاران آفت تاب
میر صاحب سید عالی نسب
اختر زینده پرج شرف
دشگیر ساکن دریای غم

تا صله دین اسکا حضرت مصطفی
نام اسکا زبده الاخبار هو
وقت تمام وقت حج ای صاب یقین
ماه ذی الحجی سی و ده دن تها عیا
یک هزار و دصد و چارای غیره
نکته رس شیرین سخن غده السیا
مالک طرز لطیف و صاف کو
خوش مزاج و خوش طبیعت خوش خلق
جسم فطرت روح صدق دین
همدم یک جان و دل خان فرا
بیکه سی ده بحر موج سخن
یون هوا و قطعه تاریخ یاب
کان لطف و منبع صدق و صفا
کوهر کیتی بحر مر تضره
استثنای موج طوفان بلا

نام کتاب

۱۲۰۳